

ایس ال پپرپئی اہ کٹھی ٹس ورپ فی فیک

یہب رپ روط کے یفارٹرپئی اہ کٹھی ٹس ورپ فی فیک سے ج، ایس ال پپرپئی اہ کٹھی ٹس ورپ فی فیک نے ہٹب رمع۔ مہ ضررم یطاطحنا ی مومع کی ا ی م ودرم کے رمع یٹب ی م گن اک گناہ، مہ اتاج اناج۔ مہ ی تہٹب ی ہب حرش ی یک م نوہ عق او ہتاس کے 50 ی م سوگول م ہڈا تقریباً کے رمع دی از سے BPH۔ مہ ی تاج مہ عورش تفرش یپ کے 80 تقریباً کے رمع دی از سے لاس 90 وک ودرم %BPH، مہ اتاج مہ ی مہ ی ت مہ اتامال ع ی ک ماہت کور ی ک باش یپ ی م سوگول م ہڈا تقریباً سے ی م نا روا

BPH اک مہ نوہ ادیپ لی اس م کے باش یپ دی دش و ج، مہ اتکس نب ببس اک ٹواکر ی ک ارہت یروی مچرگا۔ مہ اتکس نب ببس BPH ی گدنز مہ مہ ات، مہ ی م ضررم ال او مہ نب م رطخ مہ ی ل کے ی گدنز۔ مہ اتکس رک رثاتم رپ روط نی گنس وک رای عم کے

ای امن ی م دادعت ی ک ودرم لامح کے لی اس م کے ٹھی ٹس ورپ ی م دادعت ی مہ ی تہٹب ی ک ی دابآ۔ مہ اوہ مفاضا 50 تار: مہ اتکس مہ ان ماس اک تامال ع لی ذ مچردنم وک دارفا کے رمع دی از سے لاس ی ک مہ نرک باش یپ کن اچا؛ مفاضا ی م باش یپ نارود کے ند؛ ان آ باش یپ سے ترٹک تقو کے روا؛ انرگ مہ رطق رپ ماتتخا کے باش یپ؛ راہد ی ک باش یپ روزمک ای لامح اک ٹواکر؛ ان مہ تچاح ببس مہ۔ مہ اوہ ی مہ ی ل مہ ان مہ اک انرک سوسم دع ب کے مہ نرک باش یپ BPH تامال ع مہ بتنا ی ک ان لم دل ج زا دل ج سے رٹکاڈ مہ نپا وک پآ وت، مہ ی م ی م ی ٹوک سے ی م تامال ع لی ذ مچرد وک پآ رگا مہ ی مہ ی مہ اچ:

ی م سوگرزب رت مہ ای ز BPH مہ لی اس م کے BPH جال ع سے مچو ی ک مہ نوہ مہ نمرش وک درم ال تبم ی م وک تامال ع سے مہ ی م رٹوم جال ع روا ص ی خشت ی دل ج۔ مہ ی مچ ی نرک ی مہ ی مہ شالات ی ک۔ مہ اتی ددم ی م مہ نرک لورٹنک

1. ۛے ایک ایس الپرپئیہ کٹیٹس ورپ فی فخ

روا ےچین ےک منائم ہی۔ ےه وضع منادرم کی ا ربارب ےک زئاس ےک ٹورخا کی ا دودغ ٹیٹس ورپ مسج وج ےه انرک ادیپ لایس یںم یںم ماک ی داینب اک سا۔ ےه اتوه دوجوم یه بیرق ےک ارهت یروی ےه اتاج رک ےل رهاب وک زمپس ےس

لنومراہ دعب ےک س ج، ےه اتر مکحتسم کت رمع یںایمرد رپ روط ماع زئاس اک ٹیٹس ورپ غلاب ریغ مفاضا کنوچ۔ ےه یتکس وه تعسو یںم زئاس ےک ٹیٹس ورپ ےس هچو یک سویلیدبت ےه اتاج اک ایس لپرپئیہ ٹیٹس ورپ ررض ےب/ نئان ےب ےس ا ےئل سا، ےه سرسنی ک

روا یروا باشیپ لکش م وابد ہی۔ ےه اتلاڈ وابد رپ ارهت یروی هی وت، ےه اتاج هژب ٹیٹس ورپ بج مک ےه اتلاچ هتپ ےس رامش و دادعا لکیکنیلک۔ ےه اتکس رک ادیپ لئاسم ےک باشیپ رگی د BPH 51 ےس 60، ےه اترک رثاتم وک وودرم ےک رمع یک نایمرد ےک لاس 70 وک وودرم 70% رمع یک روا یںم 90 وک وودرم 80 یںم رمع یک لاس

2. ۛیہ لم اوع ایک ےک ےرطخ ےک ای زی لپرپئیہ کٹیٹس ورپ فی فخ

BPH ریغ ےک وشٹ ٹیٹس ورپ روا سویلیدبت لنومراہ قلعتم ےس رمع رپ روط ی داینب وک ےک باشیپ۔ ےه اتاج ایک رایت ےس فرط یک امنوشن دئاز ےس تروررض یک رسنیک زنشکیفن BPH، وانات، اپاٹوم، موالع ےک سا یںم ےتکس رک مفاضا یںم تدش یک تامالع یک ناظفح صقان روا تاداع یئاذغ، یراک تا یودا، یشون ٹی رگس، لامعتسا اچیب اک بارش، نشیرپڈ ت حص BPH۔ ےه اتکس هژب وک مرطخ قلعتم ےس

3. ۛئاج اکور ےس یک وک ایس لپرپئیہ کٹیٹس ورپ نئان یب

BPH سا ےس حرط سک مک ےه یںیقی ریغ یه ببا هی۔ ےه اتاج هژب هتاس ےک رمع مرطخ اک روم لیڈ هچردنم، مهات۔ ےه اتکس اج اکور وک مضراع BPH وک ےرطخ ےک ےنرک تفرشیپ ےک یںم ےتکس رک ددم یںم ےنرک مک

• ےنئاعم ےس یگدع اقب

قباطم ےک یٹئاس وس رسنیک یک یںم 50 وک وودرم ےک رمع دئاز ےس لاس BPH ےک ےه اچ انرک منئاعم اک ٹیٹس ورپ منالاس ےئل ےک جالع روا ےن اگل هتپ یئادتب

- (منیاعم دعقم لٹیجی ڈی ڈی DRE)

50 راب کی ا مک سے مک می لاس وک دارفا دی از سے لاس DRE ٹسی ٹ -ئی اچ انارک ای سوی لھڈ/وھٹ ناگ ی لوم عم ری غ روا ، سے اترک منیاعم اک لکش روا زئی اس کے ٹی ٹس ورپ - سے اترک لاتڑپ ی ک شزوس

- انانپا ی گدنز زرط دنم تحص روا انھکر رارقرب وک اذغ دنم تحص کی ا

4. ۛے اےک بببس اک اےس پلپرپئے اے ٹےٹس ورپ نئے ان ےب

BPH مے اتلچ مےتپ ےس تاعلاطم لکےن ےلک، مہات۔ ےے ےن مول عم کت ےہبا مےجو ےقےق ح ےک 50 مےتس۔ اےس مےجو ےک ےوےل ےدبب ےک لنوم راء ٹےٹس ورپ ےک ےو درم رت مءاےز ےک رم ع ےک لاس۔ ےے اتن ب بببس اک امنوشن ءئےاز ےس ترورض ےک وشٹ ٹےٹس ورپ وچ ےے ےتھڑب مےتس۔ اےباش پ ےے۔ ےگ ےٹم س روا ےٹکس ےم ارهت ےروے ےہب تفاب ےک ےوھٹپ ءوچوم ےم ٹےٹس ورپ۔ ےے اتکس نب ٹعاب اک لکش م ےم ےنرک باش پ روا ےے اتکس کور وک ءامب ماع ےک

5. ۛے مءامال ع اےک ےک اےزےل پرپئے اے کٹےٹس ورپ فےفخ

BPH حضاو اے ءرء ےوےک مکنوچ۔ ےے اتوہ عورش ےس ءامب ےک باش پ ےتس س رپ روط ماع ن ےگن س تہب لاحت روص بچ۔ ےے ےترک زانءا رظن ےس اءرم رت مءاےز، ےے ےتوہ ےن فےل کت اوہ اھڑب مے ےے مےجو ےک سا۔ ےے ےتوہ ےراوش ءم ےنرک عورش باش پ وت، ےے ےتاج وہ، ےے اتن ب بببس اک ےن ءےڈےکس وک ارهت ےروے روا ےے اتلاڈ ءابء رپ ارهت رروے ٹےٹس ورپ روا ےٹوم ےراوےء مءام۔ ےے اتاج وہ ءابء روا ےئےل ےک ےن لاکن رہاب باش پ رپ مءام ےس سا اک تءامال ع لےءرء ےے۔ ےے اتکس ھکر وک باش پ مے ےس مے مءام مےبج ےے ےتاج وہ تخس ےے اتکس نب بببس

- تار روا انوہ شہاوخ ےک ےنرک باش پ راب ےئےک ناروء ےک نء۔ ان آباش پ ےس ترٹک۔ انوہ ےڑھک راب مءاےز روا ےئےل ےک ےنرک باش پ تقو ےک
- رےخات اے لکش م ےم ےنرک عورش باش پ تقو ےترک ششوک ےک ےنرک باش پ۔ انوہ
- ےترک باش پ۔ راءء ےک باش پ راتفر ےس اے روزمک، راء مءقو، ےتآرک کر کر۔ انرگ ےرطق مے حءے اے انرک عورش روا انکر تقو تقو
- انرگ ےرطق رپ مءتخا ےک باش پ
- باش پ۔ ےے ےن ےل اء رپ روط لمکم مءام ءعب ےک ےنرک باش پ مے انرک سوس ح م ءانت ےئےل ےک ےنرک
- تار رپ روب صاء، انرک سوس ح مءاج کن اءا اے مءح تسم ےک ےنرک باش پ ےے رٹکا تقو ےک
- ےم اکان ےم ےن کور وک باش پ مے اس بچ، ےم اکان ےم ےنرک لورٹنک
- ےراےتخا ےب ےباش پ
- وچ ےتے حالص مءع مء فےل کت، کن اءا کےا ےک ےنرک باش پ بانءتجا ےس باش پ زےت ےے ےتن ب بببس اک ٹواکر زےت ےک باش پ ےم مءام
- فےل اکت ےم ےص ح لےلچن ےک ٹےپ
- (اےروٹام ےے) نوخ ےم باش پ

بچرگا BPH، ے نیں تلح مرثاتم میسوم کی ا BPH ے نیں ے تو ے نیں امرس مسوم رثکا تاعق او ے
ے کے ٹیٹسورپ روا ے اتی دکی رح ت وک باصع ا ی دع تم ری غ مسوم اک سوی درس ے ے نیں ے ج و
تامال ع هچک روا ے اتڑی کس وک ارھتی روی دی زم و ج، ے اتنب مک ح تس م وک و اڑکس ے تالض ع
وہ ولف ے س ترثک ہدای ز وک و گول نیں سوی درس ے اس ی ج، موال ع ے سا ے اتنب ببس اک
نیں ے اتنب طوبض م وک و اڑکس ے کے و ہٹپ ے کے ٹیٹسورپ ی ہب ت ای او دا سن ئی اس هچک، ے اتاج
ے نیں ے تاھڑب وک ے ن آ باش ی پ ے س لکش م ے اس ی ج تامال ع روا

BPH ے نیں ے کی رورض روا، ے ے تو ے فل تخم ے س ظاحل ے کے درف ر ے تدش روا تامال ع کی
وہ قباطم ے کے زئاس ے کے ٹیٹسورپ

6. ہے اتاج ایالچ سے یک ہتپ روا صیخشت یک ایزی لپ پرائہ کٹیٹسورپ فی ففخ

BPH مزادنا اک تدش یک تامال ع اورٹکاڈ، ےئل کے ےنرک صیخشت یک
 روکسا تامال ع ٹیٹسورپ یماوقال انیب رپ روطماع ےئل کے ےنرک
 (ہمانل اوس IPSS) نشی ایسوس ایچولوروی یکی رما سی ےترک لامعتسا (AUA)
 نیعت اک ٹیٹسورپ سی ملحرم یئادتبای کی، ہدرک نیازیڈ ہعیرڈ کے
 ےنرک BPH غارس اک تارثا کے جالع روا ےنرک ول اف وک تفرشیپ یک
 ےئل کے ےنرک لگال IPSS-ے لوٹ مہا کی

IPSS، 7 اک نج، ے لمتشم رپ تال اوس 5-0: ے اتاج ای دی روکسا رپ ے نامیپ کے

Over the past month, how often have you....	None at all	Less than 20% of time	Less than half the time	About half the time	More than half the time	Almost always
had a sensation of not emptying your bladder completely after urinating?	0	1	2	3	4	5
had to urinate again less than 2 hours after urinating?	0	1	2	3	4	5
stopped and started again several times when you urinated?	0	1	2	3	4	5
found it difficult to postpone urination?	0	1	2	3	4	5
had a weak urinary stream?	0	1	2	3	4	5
had to push or strain to urinate?	0	1	2	3	4	5
Over the past month,.....	None	1 time	2 times	3 times	4 times	5 times or more
how many times did you most typically get up to urinate from the time you went to bed at night until you got up in the morning?	0	1	2	3	4	5

روطب ے یتاج یک ی دنب ہچرد یک تامال ع

گلہ: 1 سے 7 روکسا
 لدتعم: 8 سے 19 روکسا
 دیدش: 20 سے 35 روکسا

رک ہچک سے سی ٹیٹ لیڈ ہچردنم ےئل کے ےنرک صیخشت یک تلاح رٹکاڈ، موالع کے سا

سے متکس:

(منی اعم د عقم لٹی جی ڈی DRE)

بس انت، لکش، زئی اس کے ٹیٹس ورپ کے لے کرک سے وس حم وک یتخس روا سویٹلگ زرٹکا ڈ
رک نہپ من اتسد کت د عقم نورڈنا سے د عقم کے ضی رم، کے لے کرک سے انگل مزادن اک قفاوت روا
دح یک ٹواکر، مہات۔ مہ اتکرک منی اعم اک د عقم نورڈنا روا د عقم سے ہتاس روا مہ اتکرک ل خاد یلگن
۔ سے سوی من یفاک ٹس یٹ سے الیکا کے لے کرک صی خشت یک تدش یک تی فی یک ای

(ہی زجت اک باش پی) ٹس یٹ اک باش پی

ایرونیٹورپ ای نشکی فنا، نوخ سوی باش پی رگا مک مہ اتکرک چناج ٹس یٹ اک باش پی کی
۔ سے دو جوم

(ن جی ٹن یا صوص خم دودغ PSA ٹس یٹ اک نوخ)

PSA سے ٹوہ مہڑب۔ مہ نیٹورپ کی مدرک رایت سے فرط یک ٹیٹس ورپ PSA ت ج ایرد کے
سے متکس رک سے دن اشن یک لئاسم کے ٹیٹس ورپ PSA رس نی یک ٹیٹس ورپ ٹس یٹ اک نوخ
۔ سے اتکس رک ددم یک نی رکسا کے لے کرک

یرٹیم الفوری

کے جالع روا کے کرک شئی پی یک مچرد کے ٹواکر، حرش یک و لمب کے باش پی یرٹیم الفوری
۔ سے اتکرک ددم سوی من رک ین ارگن یک تارثا

(ڈن و اس ارٹل لٹکی رس نارٹ TRUS)

یک باش پی سوی من اشم روا مہ اتکرک ای م شئی پی یک ٹیٹس ورپ و ج ٹس یٹ ڈن و اس ارٹل کی
۔ سے اتکرک مہاظ وک رادقم یقاب

ٹس یٹ نشکنف رڈیل ب

سوی من لاکن رہاب سے روز وک باش پی سے مچو یک سے آ باش پی سے لکش م، ہتاس کے تقو
امر رک ماک اس یک من اشم مک کے لے کرک ل انتڑپ۔ سے اتکس نب ببس اک من اشم روزمک ٹواکر
۔ سے ترورض یک ٹس یٹ نشکنف رڈیل ب مہ

ٹس یٹ سکمانی اڈوری

یک سے نب کے باش پی، وابد سوی من اشم روا رادقم یک باش پی سوی من اشم ٹس یٹ سکمانی اڈوری

-ۛۛ اترک شئیامیپ یک تاییقاب سی منانم روا حرش

یپوکس وٹس س

یکلہ کی اسی ارهتیریوی ےئل ےک ےنرک منئیاعم اک تامالع یک روم یلوم عمریغ ای ٹواکر
-ۛۛ یتاج یل اڈ (پوکس اوٹس س) نیبرود رادکچل

وہ تروررض یک ےنارک سٹسیٹ دیزم ےئل ےک قیدصت یک صیخشت ،سیم تالماعم ضعب
،یفارگونوسارٹلا ،ٹسیٹ باشیپ تاییقاب ڈئی او ٹسوپ سیم وٹسیٹ نا -ۛۛ یتکس
(گنجیما سننوزیر کٹی نگیم ،مارگوروی سننیوارٹن MRI) سننیوارٹن ای ےرسکیا ،
(مارگول یپ IVP سی لماش)

7. ۛے جال ع ای ک اک ای زی لپ رپ ئا ۛ کٹی س ورپ فی فخ

BPH ای ک جال ع ۛس ددم ی ک یر ج رس ی ت ح ا ر ج م ک ۛس م ک ای ت ای ودا رت ۛدای ز اک نو کس ی یم تامل ع ی ک ضر م رٹکا ڈ، ر ص ح ن م ر پ ت دش ی ک ت ل ا ح - ۛے اتا ج ای ۛن ر ک م ک و ک ۛر ط خ ۛک ۛوی گدی چ پی، ۛن ال BPH و ک ت فر ش پی ی ک -ا گ ۛر ک ش ر ا ف س ی ک جال ع ب س ا ن م ۛئل ۛک ۛن کور

تای ودا

ۛورٹکا ڈ BPH- ۛی ۛے ت ر ک ل ا م ع ت س ا اک ت ای ودا ر پ ر و ط م ا ع ۛئل ۛک جال ع ۛک تامل ع ل د ت ع م ی ک : ۛی ۛس ق ا م ۛا و د ی ک ت ای ودا 5 ر و ط م ا ع ز ر ک ا ل ب ر ٹ پی س ر - ا ف ل ا ر و ا ز ر ٹ پی س ۛن ا س ی ٹ ک ڈی ر - ا ف ل ا - ت ای ودا، ۛی م تامل م رت ۛدای ز - ۛے ت ر و ر ض ی ک ۛن ی ل ک ت ت ق و ل ی و ط ک ی ا و ک ت ای ودا ن ا، ر پ BPH ۛی ۛے ت ک س ال یر ت س ب ی م تامل ع ی ک ل ک ش م ی م ب ا ش پی ۛس ۛچ و ی ک

- 5 ز ر ٹ پی س ۛن ا س ی ٹ ک ڈی ر - ا ف ل ا -
(ن و ر ی ٹ س و ٹ س ی ٹ و ر ڈی ئی ۛی ڈ ۛس ج ن و م ر ا ۛ ت ای ودا ۛی DHT ۛک ۛٹی س و ر پ و ج ۛی ۛے ت ۛک)
و ک ۛٹی س و ر پ ۛع یر ذ ۛک ۛن ر ک د و د س م و ک ر ا و ا د ی پ ی ک، ۛے ا ت ن ب ۛچ و ی ک ۛن ا ج ۛڑ ب ۛس ج ۛی ۛے ت ر ک ۛع یر ذ ۛک ۛن کور و ک م ی ا ز ن ی ا ک ی ا ۛی م و ۛی ۛے ت ا ژ ک س
5 ت ای ودا ۛی ۛی ۛے ت ۛک س ی ٹ ک ڈی ر - ا ف ل ا - BPH م ک و ک ت ر و ر ض ی ک یر ج رس ر و ا ت دش ی ک
ۛی م ۛن و ۛ ر ٹ و م ۛک ن ا ۛی ۛے ت ر ک د د م ی م ۛن ر ک 3 ۛس 6 ی ٹ ن ی ا - ۛے ا ت ک س گ ل ک ت م
ک ی ا ڈی ئی ا ر ی ٹ س ا ن ی ف ن ج و ر ڈ ن ا 5 ر پ ر و ط م ا ع ۛس ج ۛے ر ٹ پی س ۛن ا س ی ٹ ک ڈی ر - ا ف ل ا - BPH اک
- ۛے اتا ج ای ک ل ا م ع ت س ا ۛئل ۛک ۛن ر ک جال ع
• ز ر ک ا ل ب ا ف ل ا / ز ر ک ا ل ب ر ٹ پی س ر - ا ف ل ا
م و ۛی ۛے ت ک س ا ۛڑ ب و ک ز ل س ی و ڈ ل ب ر و ا ۛی ۛے ت ک س ر ک م ک و ک و ا ب د ۛک ن و خ ت ای ودا ۛی
ر و ا ۛی ۛے ت ر ک د د م ی م ۛن و ۛ نو ک س ر پ و ک و ۛھ ٹ پ ل ر ر ۛت ی ر و ی ر و ا ن د ر گ ی ک م ن ا ت م
ی ت ک س ر ک ۛی م م ک و ک ز ی ا س ۛک ۛٹی س و ر پ م و، م ۛات ۛی ۛے ت ا ن ب ی ن ا س آ ا ن ر ک ب ا ش پی
ا ن ر ک ل ا م ع ت س ا ک ت ت د م ل ی و ط و ک ت ای ودا ن ا - ا گ ۛر ا ت ۛڑ ب ز ی ا س اک ۛٹی س و ر پ، ا ن م ل ۛی ۛے
ۛے ت ا ج آ س پ ا و ۛض ر ا ع / تامل ع ی ک یر و آ ب ا ش پی ل ک ش م و ت ۛی ۛے ت ا ج ی د کور ت ای ودا ر گ ا - ۛے ت ا ج
ر پ ر و ط ی ر و ف ۛئل ۛک ۛن ر ک م ک و ک تامل ع ت ای ودا ۛی - ۛے ا ت ک س و ۛ د ی دش ۛدای ز ر و ا ا گ
ۛی ۛے ت ر ک م ا ک 70-80 ض ی ر م م و، م ۛات - ۛے ت ا یر ت س ب ر د ن ا ۛک ۛن و ن د د ن چ ۛی م و ض ی ر م %
م ا ع - ۛے ت ا ج ی ن ر ک ۛی م ل ا م ع ت س ا ۛی م ن ا، ۛے ا ت و ۛ ا ن م ا س اک ت ا ر ث ا ی ن م ض ن ی گ ن س ۛی م ج
ۛی ۛے ت ر و ل و س م ی ٹ ر و ا ن س و ز ا س ک و د، ن س و ز ا ر ی ٹ ۛی م ر ز ک ا ل ب ر ٹ پی س ر - ا ف ل ا ن یر ت

یر ج رس

رٹکا ڈ و ت و ۛ م ن ر ا ی ت ۛئل ۛک ۛن ی ل ت ای ودا ی ت د م ل ی و ط م و ای ۛو ۛے ت دش تامل ع ی ک ض ی ر م ر گ ا
ۛی ۛے ت و ۛ ع ق ا و ا ی گدی چ پی ای و ۛ م ن ر ٹ و م ا و د ر گ ا ای، ۛی ۛے ت ک س ر ک ش ر ا ف س ی ک یر ج رس

لیڈ جرد - ۷۰ اینڈ لاکن وک مصحح کی ایک وشٹ ٹیٹسورپ فیاضاً دصقم BPH یرجرس ےئل کے
ہیہ ماسقاً ماع ےئل کے

(a) ےئل کے لڑھت یروی سنارٹ ایک ٹیٹسورپ (TUIP)

کی ےئل کے ٹیٹسورپ ےس ارھت یروی ےس - ۷۰ نش یرپآ کپوکس اوٹن ےئل کے
روا ےس کے ےئل کے لڑھت یروی دعب کے ےس - ۷۰ اتاج اید ماجنا ےکرک لخد پوکس اوٹن ےئل کے
ای اگل ٹک اس اٹوھچ کی ےئل کے وشٹ ٹیٹسورپ ےئل کے ےکرک اڈب وک ےئل کے نش یروی ےکرک مناشم
- ۷۰ اتاج TUIP اتوہ ےئل کے نش یروی ےئل کے دعب کے یرجرس روا ۷۰ نش یرپآ ظوفحم قطعاً کی
تقریباً ےئل کے نش یرپآ سا - ۷۰-۴۰-۵۰ ےئل کے ےئل کے

(b) نش کی ےئل کے لڑھت یروی سنارٹ ایک ٹیٹسورپ (TURP)

رک لڈ پوکس اوٹن ےئل کے ےئل کے لسانت وضع ےس - ۷۰ نش یرپآ کپوکس اوٹن ےئل کے ےئل کے
ےئل کے ےئل کے ےئل کے ےئل کے ےئل کے ےئل کے ےئل کے ےئل کے ےئل کے
وک ےئل کے نش یرپآ سا - ۷۰ ےئل کے کور ۶۰-۹۰ ایزی ہتسن ےئل کے لرنج ےئل کے ےئل کے
- ۷۰ اتکس اج ایک تحت کے

ےئل کے وک ےئل کے ٹیٹسورپ (ج)

ےئل کے ےئل کے ےئل کے ےئل کے ےئل کے ےئل کے ےئل کے ےئل کے
- ۷۰ اتکس اج ایک تحت کے ےئل کے ےئل کے ےئل کے ےئل کے ےئل کے ےئل کے ےئل کے

جالع زادن اڈخل مک ےس مک

ےئل کے ےئل کے ےئل کے ےئل کے ےئل کے ےئل کے ےئل کے ےئل کے
- ۷۰ ےئل کے ےئل کے ےئل کے ےئل کے ےئل کے ےئل کے ےئل کے ےئل کے

□ ےئل کے ےئل کے ےئل کے ےئل کے ےئل کے ےئل کے ےئل کے ےئل کے

- (ےئل کے لڑھت یروی سنارٹ TUMT: TUMT ےئل کے ٹیٹسورپ ےئل کے ےئل کے ےئل کے)
- ےئل کے لڑھت یروی سنارٹ TUNA: TUNA ےئل کے ٹیٹسورپ ےئل کے ےئل کے ےئل کے)
- (ےئل کے لڑھت یروی سنارٹ VLAP: VLAP ےئل کے ٹیٹسورپ ےئل کے ےئل کے ےئل کے)
- ےئل کے لڑھت یروی سنارٹ VLAP: VLAP ےئل کے ٹیٹسورپ ےئل کے ےئل کے ےئل کے)



- مرابغ عیسوت لباق کی اے لے کے نرک عیسو وک ارھتی روی جالع ہی: یگداشک مرابغ
-ے اترک لامعتسا

8. یہ ایک ایسی گدی چپی ایک ایس پلپرپرائیٹس اورپ نئی انیب

BPH مک وہ من مول عم میں نا ہے اتکس وہ ہے۔ اتکس ہکی میں تمامال عیئوک گول ہچک لامح کے انماس اک فی لکت میں منکس رک باشی میں نا کن اچا کت بج ہے۔ ملئسم اک ٹیٹسارپ میں نا جالع یروف ےئل کے سا۔ ہے اتاج اناج رپ روط کے کے اناج کر باشیپ دیدش وک تللاح سا۔ ہے اتوہ میں یتکس وہ عقاو یگدی چپی رگی، رگی تروصب۔ ہے یتوہ تروررض یک

BPH: میں لامش میں سوی گدی چپی ماع یک

(اناج کر باشیپ دیدش)

کیا ہے۔ اتوہ درد روا شزوس میں مناشم۔ ہے اناج وہ لباقان کن اچا ےئل کے کے منرک باشیپ ہی۔ ہے یتوہ تروررض یک ہجوت یبط یروف ےئل کے کے سج ہے تللاح یم اگنہ

(ہنشکی فنا کے یلان یک باشیپ)

BPH اک ےن وہ مرابود کے نشکی فنا کے یلان یک باشیپ ال اویناج مر یقاب ےس ہجو یک۔ ہے اتکس نب ببس

(رہتپ کے مناشم)

BPH- ہے اتکس رک مفاضا میں ےرطخ کے یرہتپ یک مناشم

(ہنوخ میں باشیپ)

BPH- ہے اتکس نب ببس اک ےن ہنوخ

(ہلعف اک مناشم مرثاتم)

BPH کت ےصرع لیوط وک رڈیل ب بج۔ ہے اتکس نب ثعاب اک ٹواکر میں یلان ینوریب یک مناشم راوید یک سوہٹپ یک مناشم، ہے یتڑپ انرک تنجم تخس ےئل کے کے نلاکن رہاب وک باشیپ۔ ہے میں یتڑکس ےس کی ہٹ با روا ہے یتاج وہ روزمک روا یتاج لیہپ

(ہلعف اک ےدرگ مرثاتم)

دیدش BPH- ہے اتکس نب ببس اک ےن چنہپ ناصقن وک سودرگ روا ےن اج کر کے باشیپ۔ ہے اتکس لکن یہب ہجیتی اک یم اکان یک ےدرگ مک کت حئی روا ایم روی، سریفی نورڈی



(گشزوس یك دودغ ٹیٹسورپ ،سٹئیٹٹیٹسورپ)

كے ك اچ لیكنیقیہ BPH دوجوم هتلس كوا رقتل اح وون و دنكول ءے ك تنب رهن بفس كرسنك
رئی نكس و